



## ”تمھاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے“

عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھاری ہوگئی ہے۔ لہذا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، جس میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ نے فرمایا: ”تمھاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے“  
[صحیح] [رواه الترمذی وابن ماجہ وأحمد]

ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے حضور شکایت کی کہ اسے نفل عبادتیں اتنی زیادہ لگتی ہیں کہ اپنے ضعف کی وجہ سے انہیں انجام دے نہیں سکتا۔ پھر گزارش کی کہ آپ اسے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیں، جس سے بہت سارے ثواب حاصل ہو جائیں اور جسے وہ مضبوطی سے پکڑے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی رہنمائی اس جانب کی کہ ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ذکر میں سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ اور دعا وغیرہ شامل ہیں۔

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/4716>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

